

إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

بیشک میرا رب ہی کشادہ کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے اپنے بندوں میں سے اور نپاٹتا دیتا ہے (جس کو چاہے)۔

سَبَّأً

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
سب خوبی (حمد) اللہ کی ہے، جس کا ہے جو کچھ ہے آسمان و زمین میں،

وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ

اور اسی کی تعریف ہے آخرت میں۔

وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ (۱)

يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا

جانتا ہے جو پھٹتا (داخل ہوتا) ہے زمین میں، اور جو نکلتا ہے اس سے،

وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا

اور جو اترتا ہے آسمان سے، اور جو چڑھتا ہے اس میں،

وَهُوَ الرَّحِيمُ الْعَفُورُ (۲)

اور وہی ہے رحم والا بخشتا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَتَاتِينَا السَّاعَةُ

اور کہنے لگے منکر، نہ آئے گی ہم پر وہ گھڑی۔

قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَأَتَاتِيكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ

ٹو کہہ، کیوں نہیں؟ قسم ہے میرے رب کی، البتہ آئے گی تم پر، اُس چھپے جانے والے کی۔

لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

غائب نہیں ہو سکتا اُس سے کچھ ذرہ بھر آسمانوں میں نہ زمین میں،

وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۳)

اور اور کوئی چیز نہیں اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی، جو نہیں ہے کھلی کتاب (لوح محفوظ) میں۔

لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

تا (کہ) بدلہ دے انکو، جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔

أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۴)

وہ جو ہیں، انکو ہے معافی اور روزی عزت کی۔

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٍ (۵)

اور جو لوگ دوڑے ہماری آیتوں کے ہرانے (بچا دکھانے)، انکو بلا کی مار ہے دکھ والی۔

وَيَرَى الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ

اور دیکھ لیں جنکو ملی ہے سمجھ، کہ تجھ پر اترا تیرے رب سے، وہی ٹھیک (حق) ہے،

وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۶)

اور سوچھاتا ہے راہ اس زبردست خوبیوں والے کی۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُنْبئُكُمْ إِذَا مُزِقْتُمْ كُلَّ مَزْقٍ

اور کہنے لگے منکر، ہم بتائیں تم کو ایک مرد، کہ تم کو خبر دیتا ہے، جب تم پھٹ کر ہو جاؤ ٹکڑے ٹکڑے،

إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ (۷)

تم کو پھر نیا بنانا ہے (پیدا ہونا ہے نئے سرے سے)۔

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ

کیا بنا لایا ہے اللہ پر جھوٹ؟ یا اسکو سودا (دیوانگی) ہے۔

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ (۸)

کوئی نہیں! جو یقین نہیں رکھتے آخرت کا آفت میں ہیں، اور صریح غلطی میں۔

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

کیا دیکھتے نہیں؟ جو کچھ انکے آگے ہے اور پیچھے ہے، آسمان و زمین میں۔

إِنْ نَشَأْ نُخَسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ

اگر ہم چاہیں، دھنسا دیں انکو زمین میں، یا گرا دیں ان پر ٹکڑا آسمان سے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ (۹)

اس میں پتا (نشان) ہے ہر بندے کو، جو (اللہ کی طرف) رجوع رکھتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا

اور ہم نے دی داؤد کو اپنی طرف سے بڑائی۔

يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ

اے پہاڑو! رجوع سے پڑھو اسکے ساتھ اور اڑتے جانورو!

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ (۱۰)

اور نرم کر دیا ہم نے اسکے آگے لوہا۔

أَنْ أَعْمَلَ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرَ فِي السَّرْدِ

کہ بنا کشادہ زرہیں، اور اندازے سے جوڑ کر کڑیاں،

وَأَعْمَلُوا صَالِحًا

اور کرو تم سب کام بھلا۔

إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۱۱)

میں جو کرتے ہو دیکھتا ہوں۔

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غَدُوًّا شَهْرًا وَرَوَاحًا شَهْرًا

اور سلیمان کے آگے باؤ (ہوا)، صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینہ۔

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ

اور بہا دیا ہم نے اسکے واسطے چشمہ گھلتے تانبے کا۔

وَمِنَ الْجِنَّةِ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ

اور جنوں میں سے کتنے لوگ جو محنت کرتے اسکے سامنے، اسکے رب کے حکم سے۔

وَمَنْ يَزْعَمْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ (۱۲)

اور جو کوئی پھرے ان میں ہمارے حکم سے چکھائیں ہم اسکو آگ کی مار۔

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَّحَارِبٍ وَتَمَائِيلَ

بناتے اسکے واسطے جو چاہتا قلعے اور تصویریں،

وَجِفَانِ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ

اور لگن جیسے تالاب اور دیکھیں چولھوں پر جمیں۔

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا

کام کرو داؤد کے گھر والو! حق مان کر۔

وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ (۱۳)

اور تھوڑے ہیں میرے بندوں میں حق ماننے (شکر کرنے) والے۔

فَلَمَّا قُضِيَٰ عَلَيْهِ الْمَوْتِ

پھر جب تقدیر کی ہم نے اس پر موت،

مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةَ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتِهِ

نہ بتایا انکو اسکا مرنا مگر کیڑے نے گہن کے، کھاتا رہا اسکا عصا۔

فَلَمَّا حَرَ تَبَيَّنَتْ الْجِنُّ

پھر جب وہ گر پڑا، معلوم کیا جنوں نے،

أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ (۱۴)

کہ اگر خبر رکھتے ہوتے غیب کی، نہ رہتے ذلت کی تکلیف میں۔

لَقَدْ كَانَ لِسَبَا فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةً

قوم سبا کو تھی اُنکی بستی میں نشانی۔

جَنَّاتٍ عَن يَمِينٍ وَشِمَالٍ

دو باغ داہنے اور بائیں۔

كُلُوا مِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ

کھاؤ روزی اپنے رب کی، اور اسکا شکر کرو،

بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ

دیس ہے پاکیزہ،

وَرَبٌّ غَفُورٌ (۱۵)

اور رب ہے گناہ بخشتا۔

فَاعْرَضُوا

پھر دھیان میں نہ لائے،

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرْمِ

پھر چھوڑ دیا ہم نے اُن پر نالہ زور کا،

وَبَدَّلْنَا لَهُمْ جَنَّتَيْنِ

اور دیئے انکو بدلے ان دو باغوں کے دو اور باغ،

ذَوَاتَىٰ أَكْلٍ حَمِطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ (۱۶)

جس میں کچھ ایک میوہ کیسیلا اور جھاؤ، اور کچھ بیر تھوڑے سے۔

ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا

یہ بدلہ دیا ہم نے انکو اس پر کہ ناشکری کی۔

وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ (۱۷)

اور ہم (ایسا) بدلہ اسکو دیتے ہیں جو ناشکر ہو۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرَىٰ ظَاهِرَةً

اور رکھی تھی ہم نے ان میں اور ان بستیوں میں جہاں ہم نے برکت رکھی ہے، بستیاں راہ پر نظر آتیں،

وَقَدَرْنَا فِيهَا السَّيْرَ

اور منزلیں ٹھہرا دیں ہم نے ان میں چلنے کی۔

سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ (۱۸)

پھر وہ ان میں راتوں اور دنوں امن سے۔

فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا

پھر کہنے لگے اے رب! فرق ڈال ہمارے سفر میں،

وَوَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ

اور اپنا برا کیا،

فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَقْنَا لَهُمْ كُلَّ مُمَرَّقٍ

پھر کر ڈالا ہم نے انکو کہانیاں اور چیر کر ڈالا ٹکڑے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ (۱۹)

اس میں پتے (نشانیاں) ہیں ہر ٹھہرنے (مہر کرنے) والے کو، جو حق سمجھے۔

وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

اور سچ کر دکھائی اُن پر ابلیس نے اپنی انکل (گمان)،

فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۰)

پھر اسی کی راہ چلے، مگر تھوڑے سے ایماندار۔

وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ

اور اُسکا ان پر کچھ زور نہ تھا،

إِنَّا لَنَعْلَمُ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنهَا فِي شَكٍّ

مگر اتنے واسطے تا (کہ) معلوم کریں ہم، کون یقین لاتا ہے آخرت پر، الگ اس سے جو رہتا ہے اسکی طرف سے شک کے میں۔

وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ (۲۱)

اور تیرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔

قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ

تو کہہ، پکارو انکو جن کو دعویٰ کرتے ہو، سوا اللہ کے۔

لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ

وہ نہیں مالک ایک ذرہ بھر کے آسمانوں میں نہ زمین میں،

وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِن شِرْكٍَ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِّن ظَهِيرٍ (۲۲)

اور نہ اُنکا ان دونوں میں سا جہا، اور نہ ان میں کوئی اسکا مددگار۔

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَن أَذِنَ لَهُ

اور کام نہیں آتی سفارش اسکے پاس مگر اسکو جس کے واسطے حکم دیا۔

حَتَّىٰ إِذَا فُزِّعَ عَن قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ

یہاں تک کہ جب گھبراہٹ اٹھائی جائے اُنکے دل سے، کہیں، کیا فرمایا تمہارے رب نے؟

قَالُوا الْحَقَّ

وہ کہیں، جو واجبی ہے۔

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ (۲۳)

اور وہ ہے سب سے اوپر بڑا۔

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

تو کہہ، کون روزی دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟

قُلِ اللَّهُ

بتا کہ اللہ!

وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًىٰ أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (۲۴)

اور یا ہم یا تم بیشک سوچھ پر ہیں، یا پڑے ہیں بہکاوے میں صریح۔

قُلْ لَّا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۲۵)

تو کہہ، تم سے نہ پوچھیں گے جو ہم نے گناہ کیا، اور ہم سے نہ پوچھیں گے جو تم کرتے ہو۔

قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ

تو کہہ، جمع کریگا ہم سب کو رب ہمارا، پھر فیصلہ کریگا ہم میں انصاف کا۔

وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ (۲۶)

اور وہی ہے نیا وچکانے (بہترین فیصلہ کرنے) والا سب جانتا۔

قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ أَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ

تو کہہ، مجھ کو دکھاؤ تو، جن کو اس سے ملاتے ہو سا جھی ٹھہرا کر۔

كَلَّا

کوئی (ہرگز) نہیں!

بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۲۷)

وہی ہے اللہ زبردست حکمتوں والا۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا

اور تجھ کو جو ہم نے بھیجا، سو سارے لوگوں کے واسطے خوشی اور ڈر سنانے کو،

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۲۸)

لیکن بہت لوگ نہیں سمجھتے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ (۲۹)

اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو۔

قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ (۳۰)

تو کہو، تم کو وعدہ ہے ایک دن کا، نہ دیر کرو گے اس سے ایک گھڑی، نہ شتابی (جلدی)۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ

اور کہنے لگے منکر، ہم ہرگز نہ مانیں گے یہ قرآن، اور نہ اس سے اگلا (پہلی کتابیں)۔

وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ

اور کبھی تو دیکھے، جب گنہگار کھڑے کئے گئے ہیں اپنے رب کے پاس،

يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ

ایک دوسرے پر ڈالتا ہے بات۔

يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ (۳۱)

کہتے ہیں جن کو کمزور سمجھا تھا، بڑائی کرنے والوں کو، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا

کہنے لگے بڑائی کرنے والے کمزور گئے گئوں کو،

أَنْحُنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ

کیا ہم نے روک رکھا تھا تم کو سوجھ کی بات (ہدایت) سے؟ تمہارے پاس پہنچے پیچھے،

بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ (۳۲)

کوئی نہیں! تم ہی تھے گنہگار۔

وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا

وہ کہنے لگے کمزور گئے گئے، بڑائی کرنے والوں کو،

بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا

کوئی نہیں! پرفریب سے رات دن کے، جب تم ہم کو حکم کرتے، کہ ہم نہ مانیں اللہ کو اور ٹھہرائیں اسکے ساتھ برابر کے۔

وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابَ

اور چھپے چھپے پچھتانے لگے، جب دیکھا عذاب۔

وَجَعَلْنَا الْأَعْنَاقَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا

اور ہم نے ڈالے ہیں طوق گردنوں میں منکروں کے۔

هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۳۳)

وہی بدلہ پاتے ہیں، جو کرتے تھے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا

اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا، مگر کہنے لگے ہیں وہاں کے آسودہ لوگ،

إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ (۳۴)

ہم تمہارے ہاتھ بھیجا نہیں مانتے۔

وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (۳۵)

اور کہنے لگے، ہم کو زیادہ ہے مال اور اولاد، اور ہم پر آفت نہیں آئی۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

تو کہہ، میرا رب ہے جو پھیلا دیتا ہے روزی جسکو چاہے، اور ماپ کر دیتا ہے (جسکو چاہے)۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۳۶)

لیکن بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔

وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَىٰ

اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد، وہ نہیں کہ نزدیک کر دیں ہمارے پاس تمہارا درجہ،

إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا

پر جو کوئی یقین لایا، اور بھلا کام کیا۔ سو انکو ہے بدلہ ڈونا انکے کئے (اعمال) پر،

وَهُمْ فِي الْعُرْفَاتِ آمِنُونَ (۳۷)

اور وہ جھروکوں (جنت کے درجوں) میں بیٹھے ہیں خاطر جمع (اطمینان) سے۔

وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ (۳۸)

اور جو لوگ دوڑتے ہیں ہماری آیتوں کے ہرانے (نچا دکھانے) کو، وہ مار میں پکڑے آتے ہیں۔

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ  
تو کہہ، میرا رب پھیلا (کشاہدہ کر) دیتا ہے روزی، جسکو چاہے اپنے بندوں میں، اور ماپ کر دیتا ہے اسکو (جسکو چاہے)۔

لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ  
اور جو خرچ کرتے ہو کچھ چیز، وہ اسکا عوض دیتا ہے،

وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (۳۹)

اور وہ بہتر ہے روزی دینے والا۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ  
اور جس دن جمع کریگا ان سب کو، پھر کہے گا فرشتوں کو،

أَهْوَأَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ (۴۰)

کیا یہ لوگ تھے تم کو پوجتے؟

قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيِّنَا مِنْ دُونِهِمْ

وہ بولے، پاک ذات ہے تیری، ہم تیری طرف ہیں، نہ (کہ) انکی طرف۔

بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ

نہیں پر (یہ) پوجتے تھے جنوں کو۔

أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ (۴۱)

یہ اکثر انہی پر یقین رکھتے ہیں۔

فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا

سو آج تم مالک نہیں ایک دوسرے کے بھلے کے، نہ برے کے،

وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ (۴۲)

اور کہیں گے ہم ان گنہگاروں کو، چکو تکلیف اس آگ کی، جس کو تم جھوٹ بتاتے تھے۔

وَإِذَا نُتِلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

اور جب پڑھی جائیں ان پاس ہماری آیتیں کھلی،

قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصِدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ

کہیں اور نہیں، مگر یہ ایک مرد ہے، کہ چاہتا ہے، روک دے تم کو ان سے جگو پوجتے رہے تمہارے باپ دادے۔

وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُّفْتَرَىٰ

اور کہیں، اور نہیں، یہ جھوٹ ہے باندھ لیا۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ (۳)

اور کہتے ہیں منکر ٹھیک بات کو، جب پہنچے ان تک، اور نہیں، یہ جادو ہے صریح۔

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِّنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا

اور ہم نے دی نہیں انکو کچھ کتابیں، جن کو پڑھتے ہیں،

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَّذِيرٍ (۴)

اور بھیجا نہیں ان پاس تجھ سے پہلے کوئی ڈرانے والا۔

وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور جھٹلایا ہے ان سے اگلوں نے،

وَمَا بَلَّغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي

اور یہ نہیں پہنچے دسویں حصہ کو جو ہم نے اُنکو دیا تھا، پھر جھٹلایا میرے بھیجوں کو،

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (۵)

تو کیسا ہوا بگاڑ (عذاب) میرا؟

قُلْ إِنَّمَا أَعْظَمُكُمْ بِوَاحِدَةٍ

تُو کہہ میں تو ایک ہی نصیحت کرتا ہوں تم کو،

أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَنَّىٰ وَفَرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا

کہ اٹھ کھڑے ہو اللہ کے کام پر دو دو اور ایک ایک،

مَا بِصَاحِبِكُمْ مِّنْ جِنَّةٍ

پھر دھیان کرو۔ اس تمہارے رفیق کو کچھ سودا (دیوانہ پن) نہیں۔

إِنَّ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (۶)

یہ تو ایک ڈرانے والا ہے تم کو، آگے آگے ایک بڑی آفت کے۔

قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرِ فَهُوَ لَكُمْ

تو کہہ، جو میں نے تم سے مانگا تھا کچھ نیک (اجر)۔ سو تمہیں کو پہنچے۔

إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ

میرا نیک (اجر) اسی اللہ پر،

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (۴۷)

اور اسکے سامنے ہے ہر چیز۔

قُلْ إِنْ رَبِّي يَفْذِفُ بِالْحَقِّ عَنَّا الْعُيُوبَ (۴۸)

تو کہہ، میرا رب پھینکتا جاتا ہے سچا دین۔ وہ جاننے والا ہے چھپی چیزیں۔

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ (۴۹)

تو کہہ، آیا دین سچا۔ اور جھوٹ کونہ پہلا وار نہ دوسرا۔

قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي

تو کہہ، اگر میں بہکا ہوں، تو یہی کہ بہکوں گا اپنے برے کو۔

وَإِنْ اهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّي

اور اگر میں سوچھا (ہدایت پر) ہوں تو اس سبب سے کہ وحی بھیجتا ہے مجھ کو میرا رب۔

إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ (۵۰)

وہ سنتا ہے نزدیک۔

وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزَعُوا فَلَا قُوَّةَ وَأَخَذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ (۵۱)

اور کبھی تو دیکھے، جب یہ گھبرائیں گے، پھر بھاگے نہیں بچتے، اور پکڑے آئے نزدیک جگہ سے۔

وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ

اور کہنے لگے، ہم نے اسکو یقین مانا،

وَأَتَى لَهُمُ النَّوْأَشُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۵۲)

اب کہاں انکا ہاتھ پہنچ سکتا ہے دُور جگہ سے۔

وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ

اور اس سے منکر ہو رہے آگے (پہلے) سے۔

وَيَقْدِفُونَ بِالْعَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ (۵۳)

اور پھینکتے رہے بن دیکھے نشانے پر، دور جگہ سے۔

وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِّن قَبْلُ

اور انکاؤ (پردہ) پر گیا ان میں اور جو انکا جی چاہے ان میں جیسا کیا گیا ہے انکے راہ والوں سے پہلے۔

إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُّريبٍ (۵۴)

وہ لوگ تھے دھوکے میں جو چین نہ لینے دیتا۔



© Copy Rights:  
Zahid Javed Rana, Abid Javed Rana  
Lahore, Pakistan  
[www.quran4u.com](http://www.quran4u.com)